

English (Precis & Composition) Translation

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے
آپ کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں، اگر دروغ کا تصور
آپ میں خوفِ خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت
اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر آپ
آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے باطن
راستی کے راستے پر جان سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ
صالح ہیں۔ کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش
قسمی کی بابت ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور عبادت
کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تعلیمیں بھی
سینا پڑھنی ہیں۔

Indent the paragraph.

If the world does not allure you towards
itself, if tears well out from your eyes
out of fear of Allah, if the concept
of Hell inculcates fear of Allah in you, if
you worship God the way it is right
to be, if virtue attracts you and your
feet stop going on the path of evil,
then you are righteous. Some people
are (inborn) righteous, whereas some become
righteous. It is a great fortune to be
righteous. It is a process of constant
purification and spiritual struggle to
become righteous. It takes time and
entails enduring of hardships as well.